



وَالْحَصْنَةُ مِنَ النِّسَاءِ لِأَنَّهَا مَلَكَتُ

اور شوہر دار عورتیں سوائے اُنکے جو تمہاری ملکیت ہو جائیں۔

أَيْمَانَكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ

(یہ حرام پہنا) خدا نے تمہاری ذمے لکھ دیا۔ اور اس کے سوا سب تمہاری لیے حلال

ذِكْمُ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ فَحُصْنَيْنِ غَيْرِ

کی گئی ہیں کہ تم اپنے مال خرچ کر کے بحالت پاکدامنی نہ بغرض بیکاری اُنکی خواہشگاری

مُسَارِحِينَ فَمَا اسْتَعْتَمِدْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ

کرد۔ پھر ان میں سے جن سے تم متہ کرو تو مقرر کیا ہوا

أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا

مہر اُنکو دیدو۔ اور مہر مقرر ہو جائیگے بعد آپس میں اگر تم کچھ

تَرَاضِيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ فَإِنَّ اللَّهَ

کئی بیشی پر راضی ہو جاوے تو تم پر کوئی الزام نہیں ہے۔ بیشک اللہ

كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ

صاحب علم و حکمت ہے۔ اور جو تم میں سے اتنا مقدر نہ رکھتا ہو

طَوْلًا أَنْ يَتَّكِلَ الْحَصْنَةُ الْمُؤْمِنَةُ فَمِنْ مَا

کہ آزاد مومن عورتوں سے نکاح کرے تو وہ مومن

مَلَكَتْ أَيْمَانَكُمْ مِنْ فَتْيَتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ

لو نہ یوں سے نکاح کرے جو تمہارے قبضے میں ہوں۔ اور اللہ

أَعْلَمُ بِأَيْمَانِكُمْ بِبَعْضِكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَاتَّكُواهُنَّ

تمہارے ایمان سے خوب واقف ہے۔ تم ایک دوسرے کے ہمیں ہو پس اُن سے اُنکے

بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

مالکوں کی اجازت سے نکاح کرو اور اُنکے مہر نیکی کے ساتھ اُن کو دیدو

Handwritten marginal notes in Urdu script surrounding the main text.

أَنْ تَكُونَ بِيَعَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ قَدْ وَلَا تَقْتُلُوا

کہ باہمی رضامندی سے تجارت ہو اور اپنے آپ کو قتل

أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝ وَمَنْ

نہ کرو۔ بیشک اللہ تم پر رحم کرنے والا ہے۔ اور جو شخص

يَفْعَلْ ذَلِكَ عَدَاوَاتًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيْهِ

بطور زیادتی و ظلم کے ایسا کرے گا تو آگے بڑھ کر ہم اُس کو آتشِ جہنم میں

ثَارًا ۚ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ۝ إِنْ جَحْتَبُوا

پہچانینگے۔ اور یہ بات اللہ پر آسان ہے۔ اگر کبیرہ گناہوں سے

كَبِيرًا مَا تَتَّهَوْنَ عَنْهُ نُكْفَرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ

جن سو گنہ منہ کیے گئے ہو بچتے رہو گے تو ہم تمہاری چھوٹی بڑائیاں تم سے دور کر دیں گے

وَنُدْخِلْكُمْ مَّدْخَلًا كَرِيمًا ۝ وَلَا تَتَّبِعُوا

اور تم کو اچھے مکان میں داخل کرینگے۔ اور جو زیادتی تم میں سے

فَضْلَ اللَّهِ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ طَلِيبًا

خدا نے بعض کو بعض پر دی ہے اُس کے بارے میں تمناؤں نہ کرو۔ مردوں کا

نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا ۗ وَاللِّسَاءُ نَصِيبٌ مِّمَّا

حصہ آنے کیے میں ہے۔ اور عورتوں کا حصہ ان کے کیے میں

اَكْتَسَبُوا ۗ وَسْئَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ط ۗ إِنَّ اللَّهَ

ہے۔ اور اللہ سے اُس کے فضل کے خواستگار ہو۔ بیشک اللہ

كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۝ وَكُلُّ جَعَلْنَا مَوَالِي

ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اور جو کچھ ماں باپ اور عزیز و قریب

مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ ط ۗ وَالَّذِينَ

چھوڑ جائیں اُس کے لیے چھنے ہر ایک کے وارث قرار دیے ہیں۔ اور جن سے

لے تجارت سے... اس میں... اور اپنے آپ کو قتل... بیشک اللہ تم پر... ہم اُس کو آتشِ جہنم میں... اور یہ بات اللہ پر آسان ہے... جن سو گنہ منہ کیے گئے ہو بچتے رہو گے... اور جو زیادتی تم میں سے... خدا نے بعض کو بعض پر دی ہے... حصہ آنے کیے میں ہے... اور اللہ سے اُس کے فضل کے خواستگار ہو... ہر چیز کا جاننے والا ہے... چھوڑ جائیں اُس کے لیے چھنے ہر ایک کے وارث قرار دیے ہیں...

بہت سے سوالوں کے جوابات... اور اللہ سے اُس کے فضل کے خواستگار ہو... ہر چیز کا جاننے والا ہے... چھوڑ جائیں اُس کے لیے چھنے ہر ایک کے وارث قرار دیے ہیں...

شَيْئًا وَالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ

نہ ٹھہراؤ اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو اور قرابت داروں اور یتیموں

وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ

اور مسکینوں اور رشتہ دار ہمسایہ اور اجنبی ہمسایہ

وَالصَّاحِبِ بِالْجَنُبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمِمَّا مَلَكَتْ

اور پہلو میں بیٹھے والے رفیق اور مسافر اور لونڈی غلاموں کے ساتھ

أَيْمَانُكُمْ ط إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا

(نیکی کرتے رہو)۔ بیشک خدا ان کو دوست نہیں رکھتا جو شکرتہ ہوں (اور) سچی مان نہواؤ

فَخَوْرًا ۗ وَالَّذِينَ يَبْنُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ

ہوں جو خود بھی کجس ہوں اور لوگوں کو بھی کجی ہو نیکی رائے

بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ط

دیتے ہوں اور جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دیا ہے اسکو چھپاتے ہوں۔

وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ۝ وَالَّذِينَ

اور جہنم منکروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کیا ہے۔ اور جو لوگ

يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ

اپنے مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے صرف کرتے ہیں اور خدا اور قیامت

بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ ط وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ

کے دن پر ایمان نہیں رکھتے اور جن کا رفیق شیطان ہے

قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا ۝ وَمَا ذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا

تو لہ کیا ہی بڑا رفیق ہے۔ اور انکا کیا نقصان ہوتا اگر وہ اللہ اور

بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ

قیامت کے دن پر ایمان لاتے اور جو کچھ اللہ نے ان کو دیا ہر اس میں (زیادہ خدا میں) خرچ کرنا

Handwritten notes at the top of the page, including phrases like 'وَالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا' and 'بِذِي الْقُرْبَىٰ'.

Vertical handwritten notes on the left side, providing commentary on the verses.

Large handwritten notes on the left side, including the word 'بِاللَّهِ' written vertically.

Handwritten notes at the bottom of the page, continuing the commentary.

Handwritten notes at the top of the page, including the title 'المحصنات' and the page number '۱۳۲'.

وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ۝ إِنَّ اللَّهَ لَا يُظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ

حالانکہ اللہ ان سے آگاہ ہے۔ بیشک اللہ ذرہ بھر ظلم نہیں کرتا

ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكَ حَسَنَةً يَّضْعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُونِهَا

اور اگر کچھ بھی نیکی ہوتی ہے تو اس کو بڑھا دیتا ہے اور اپنے پاس سے

لَدُونِهَا أَجْرًا عَظِيمًا ۝ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ

بہت بڑا ثواب دیتا ہے۔ پھر اس وقت کیا حالت ہوگی جب ہم ہر گروہ کو

أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا ۝ يَوْمَئِذٍ

اُسکے گواہ کے ساتھ بلائیے گئے اور تم کو ان سب پر گواہ کر کے بلائیے گئے۔

يَوْمَئِذٍ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصُوا الرَّسُولَ كَسُوا تَسْوِيًّا

اسی دن وہ لوگ جو کافر ہو گئے تھے اور رسول کی نافرمانی کیا کرتے تھے آرزو کرینگے کہ

تَسْوِيًّا بِهُمَا الْأَرْضُ ط وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا ۝ يَا أَيُّهَا

کاش وہ بیونہ زمین ہو جاتے۔ حالانکہ کوئی بات اللہ سے چھپانہ سکیے۔

الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ

اے ایمان لانیزو واجب تم حالت غفلت میں ہو تو (مسجد میں یا) نماز کے پاس نہ جانا

حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ

جتک کہ تم جو کچھ کہتے ہو اسے سمجھنے نہ لگو اور نہ حالت جنابت میں (جانا)

حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ط وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ

سوا اس کے کہ راستہ سے گزر جاؤ جتک کہ غسل نہ کرو۔ اور اگر تم بیمار ہو

أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَايِبِ أَوْ لَمْ يَأْتِ

یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی بیت اخصلا سے (فارغ ہو کر) آئے یا

لَمْ يَأْتِ الْمَسْتَمِرَّةَ فَاسْتَمِرَّةٌ ۝ وَأَمَّا فِي مَرْحَبَتِ السُّجُودِ

تھے عورتوں سے حجاج کیا ہو پھر تم کو پانی نہ ملا ہو تو پال مٹی سے بیتم

وقف النبی علیہ السلام

ملک

Handwritten notes at the bottom of the page, continuing the commentary on the verses.

Handwritten notes at the top of the page, including the word 'المحصدات' (Al-Mahsdat) and other religious commentary.

أَوْتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا

کتاب دی گئی ہے اس پر ایمان لاؤ جو کچھ ہم نازل کیا ہے درحالیکہ جو کچھ تمہارے پاس

مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا

پہلے سرزدہ اُسکی تصدیق بھی کرتا رہی قبل اسکے کہ ہم چہرے بجھا دیں اور پھر ان کو

عَلَىٰ أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ

پشت کی طرف پھیر دیں یا ان پر ایسی ہی لعنت کریں جیسے ہم نے اصحاب سبت پر لعنت کی تھی

وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ

اور امر خدا ہو کر رہیگا۔ یقیناً اللہ اسکو نہ بخشے گا

أَنْ يَشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ

کہ اسکے ساتھ شرک کیا جائے اور اسکے ماسوا جکو چاہے بخش دے۔

وَمَنْ يَشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ۗ

اور جس نے اللہ سے شرک کیا تو نے یقیناً بہت بڑا گناہ کیا۔

الَّذِينَ يَزُكُّونَ أَنْفُسَهُمْ بِاللَّهِ يَزُكُّونَ

کیا تم نے انکو نہیں دیکھا جو اپنے نفوس کو پاک قرار دیتے ہیں؛ بلکہ اللہ جسکو چاہتا ہے

مَنْ يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ۗ أَنْظُرْ كَيْفَ

پاک قرار دیتا ہے اور ان پر سوت برابر ظلم نہ کیا جائیگا۔ دیکھو تو سہی یہ

يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذْبَ وَكَفَىٰ بِهِ إِثْمًا

اللہ پر کیا جو ماہستان باندھتے ہیں۔ اور مزید گناہ کے لیے یہی

مُبِينًا ۗ الَّذِينَ يَزُكُّونَ الَّذِينَ أَوْتُوا نَصِيبًا مِّنَ

کافی ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب خدا سے ہر

الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْحَبِطِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ

دیا گیا ہے وہ جنت اور طاغوت پر ایمان لاتے ہیں اور جو منکر ہو گئے ہیں

Extensive handwritten marginal notes on the right side of the page, providing commentary and explanations for the verses.

Handwritten notes at the bottom of the page, continuing the commentary on the text.

لِلَّذِينَ كَفَرُوا هُوَ لَا يَهْدِي مِنَ الَّذِينَ

ان سے یہ کہتے ہیں کہ یہ ان ایمان لانیوالوں کی پرستت زیادہ راہ راست

أَمْنُوا سَبِيلًا ۚ وَلِيكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ

پر ہیں۔ وہی تو ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے۔

وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ نَصِيرًا ۚ أَمْ لَهُمْ

اور جس پر اللہ لعنت کر گیا تم اس کا مددگار ہرگز کسی کو نہ پاؤ گے۔ آیا سلطنت (حقیقی)

نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ إِذَآ يُؤْتُونَ النَّاسَ

میں سے ان کا کچھ حصہ ہے؟ اگر ہے تو کسی کو تیل برابر (بھی)

تَقِيرًا ۚ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ

ند دیکھتے۔ کیا وہ لوگوں پر اس کا حسد کرتے ہیں جو کچھ اللہ نے ان کو اپنے

مِنْ فَضْلِهِ ۚ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ

فضل سے دیا ہے؟ بیشک ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت

وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَهُم مَّلَكًا عَظِيمًا ۚ فَمِنْهُمْ

عطا فرمائی اور انکو بہت بڑی (حقیقی) سلطنت دی۔ پھر (عام) آدمیوں میں سے

مَنْ أَمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَّنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ

بھلو لوگ تو اُس پر ایمان لائے اور کچھ اُس سے روک گئے اور (ان کو نواز والوں کو لیے) بھڑکتی ہوئی

سَعِيرًا ۚ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا لَيْتَنَّا سَوْفَ نُصَلِّهِمْ

آگ کافی ہے۔ بالتحقیق جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا عنقریب ہم انکو آگ میں جہنم میں

نَارًا ۚ كَمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بِدَارِهِمْ

بیچتے۔ جب آگ جلیں جل جائیں گی تو اس غم سے کہ وہ عذاب کا زور

جُلُودًا غَيْرَ هَالِكَةٍ لِّذَوِّ الْعَذَابِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

بھیجے۔ ہم آگ میں اور جلیں بدل دیتے۔ بیشک خدا زبردست

Handwritten marginal notes in Urdu script, including the word 'بکرا' (Bakra) written vertically.

Handwritten marginal notes in Urdu script at the bottom of the page.

Handwritten notes at the top of the page, including the page number 138 in a circle.

عَزِيزٌ حَكِيمًا ۝ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

اور حکمت والا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے ہیں

سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

عقرب ہم انکو ایسی جنتوں میں پہنچا دیں گے جن کے نیچے نہریاں بہتی بہتی ہیں

خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَهُمْ فِيهَا زَوْجٌ مَطَهَّرَةٌ

ان میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ انکے لیے پاکیزہ انہیں بیبیاں ہیں

وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا ۝ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ

اور ہم انکو گھنے سایے میں پہنچائیں گے۔ بیشک اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ

تَوَدُّوْا وَالْأَمْنَةَ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۚ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ

تم امانتیں انکے مالکوں کو پہنچا دو اور میں وقت آدمیوں کو ماہرین فیصلہ کرو

النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا

تو انصاف کے ساتھ حکم دو۔ اللہ اس بارے میں تم کو بہت ہی اچھی

يُعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝

نصیحت کرتا ہے۔ بیشک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا

اے ایمان لانیو! اللہ کی اطاعت کرو اور اس رسول اور

الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ

ان والیاں امر کی اطاعت کرو جو تم ہی میں سے ہیں۔ پھر اگر

تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ

کسی معاملہ میں تم میں آپس میں جھگڑا ہو تو اسے اللہ اور رسول کی طرف پھیر دو

إِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ

بشہ طیکہ تم اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو۔

رج

Handwritten notes on the right side of the page, including a large 'رج' (Raj) and other commentary.

Handwritten notes at the bottom right of the page, including a large 'رج' and other commentary.

Handwritten notes at the bottom left of the page, including a large 'رج' and other commentary.

ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۚ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ

یہاں سب سے بہتر اور عمدہ تاویل ہے کیا تم نے انکو نہیں دیکھا جو یہ

يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا نُزِّلَ إِلَيْكَ وَمَا

کمان کرتے ہیں کہ جو کچھ تم پر نازل کیا گیا اور جو کچھ تم سے پہلے نازل کیا گیا وہ سب پر

أَنْزَلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى

ایمان لائیں (اور) چاہتے ہیں کہ اپنا مقدمہ طاغوت کو پاس

الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ

لے جائیں حالانکہ ان کو حکم دیا جا چکا ہے کہ اس کے منکر ہوں۔ اور شیطان

الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ۗ وَإِذَا

یہ ارادہ کرتا ہے کہ ان کو بھٹکا کر بڑی گمراہی میں ڈال دے۔ اور جس وقت

قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ

ان کو یہ کہا جائے گا کہ اللہ نے جو کچھ نازل کیا اس کی طرف اور اس رسول کی طرف آؤ

رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا ۗ

تو کتنے منافقوں کو اپنے سے رکتا ہوا دیکھو گے۔

فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا يَا قَدِّمَتْ

پھر اس وقت کیا حالت ہوگی جبکہ ان پر ایذا ہونے کے لئے ہوئے کے سبب کوئی مصیبت پڑے گی

أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوا وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَادْنَا إِلَّا إِحْسَانًا

پھر وہ تمہارے پاس خدا کی قسم کھاتے ہوئے آئیں گے کہ ہمارا تو ارادہ سوا اچھی نیکی اور اتفاق کرنا

وَتَوْفِيقًا ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ

اور کچھ نہ تھا۔ یہ لوگ وہی ہیں کہ جو کچھ ان کے دلوں میں ہے اللہ جانتا ہے

فَاعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ

ہیں تم بھی ان کو سنو پھر لو اور ان کو نصیحت کرو اور ان کی ذات کے بدلے میں ان کو برص

Handwritten notes at the top of the page, including phrases like 'بسم اللہ الرحمن الرحیم' and 'بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ'.

Vertical handwritten notes on the left margin, including 'بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ' and other religious phrases.

Handwritten word 'تکرار' (Tikrar) written vertically.

Handwritten notes at the bottom of the page, including 'بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ' and other religious phrases.

قَوْلًا بَلِيغًا ۝ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ

بائیں کیا کرو۔ اور جو کسی رسول کو نہیں بھیجا اگر اس لیے کہ خدا کو حکم کے بوجب اس کی اطاعت

اللَّهِ ۝ وَلَوْ أَنْتُمْ دَظَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا

اللَّهِ ۝ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا

رَحِيمًا ۝ فَلَا وَرَيْكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ

فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا

قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ۝ وَلَوْ أَنْتُمْ تَأْتِبْنَ عَلَيْهِمْ

أَنْ أَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوْ تُخْرَجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلَوْهُ

إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ ۝ وَلَوْ أَنْتُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ

بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيثًا ۝ وَإِذَا

لَا تَتَّبِعُهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا ۝ وَكَلَّمْنَاهُمْ

صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ۝ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ

صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ۝ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ

صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ۝ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ

صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ۝ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ

صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ۝ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ

صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ۝ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ

Handwritten marginal notes in Urdu script, including a large 'مکمل' (Mukmil) stamp, providing commentary on the verses.

Handwritten marginal notes at the top of the page, including the word 'عقود' (Aqod).

Handwritten marginal notes at the bottom of the page, including the word 'عقود' (Aqod).

فَاُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ

وہی تو ان لوگوں کو ساتھ ہونگے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے کہ بعض پیغمبروں میں سے ہیں

وَالصَّٰدِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّٰلِحِينَ وَحَسَنَ

اور بعض صدیقوں میں سے ہیں اور بعض شہیدوں میں سے ہیں اور بعض صالحوں میں سے ہیں اور وہی لوگ رفاقت کو

أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ۚ ذَٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ

سب سے اچھے ہیں۔ یہ خدا کی طرف سے فضل ہے۔ اور خدا کا آگاہ ہونا

عَلِيمًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اخذُوا حِذْرَكُمْ فَانفِرُوا

کافی ہے۔ اے ایمان لانیو! اپنی حفاظت کے سامان کرو۔ پس دستے دستے

ثُبَاتٍ أَوْ فَرَقًا ۚ وَاجْمَعُوا ۚ وَإِن مِّنكُمْ لَنْ يُبَاتِنَ

میکلو یا اچھے نکل پڑو۔ اور جمع ہو کر لوگوں کو اپنی جگہ سے دور دیکھنا چاہیے کہ وہ تم سے پیچھے رہ جائیں

فَإِن أَصَابَكُمْ مَّصِيبَةٌ قَالُوا قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْنَا

پھر اگر تم پر کوئی مصیبت پڑ گئی تو وہ یہ کہیں گے کہ خدا نے تم پر احسان کیا کہ

لَاذَلُمْنَا كُن مَعَهُمْ شَٰهِدًا ۚ وَلَٰئِن أَصَابَكُمْ فَضْلٌ

میں تمہارے ساتھ حاضر نہ تھا۔ اور اگر تم پر بھلائی کا فضل ہو گیا تو اس سعادت کو

مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولُنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ

گویا تمہاری اور اس کے مابین کوئی محبت ہی نہ تھی ضرور یہ کہیں گے کہ

مَوَدَّةٌ يُّلَاقِيكَ كُنْتَ مَعَهُمْ فَأَوْزَقُونَ ۚ عَظِيمًا ۚ

کاش میں بھی ان لوگوں کے ساتھ ہوتا اور بڑی کامیابی حاصل کرتا۔

فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا

پس وہ لوگ جو آخرت کے عوض میں زندگی دنیا کو بیچتے ہیں ان کو لازم ہے کہ راہ خدا میں

بِالْآخِرَةِ وَأَمَّنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَمُوتَ أَوْ يُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ

رہیں۔ اور جو شخص راہ خدا میں لڑے گا وہ مارا جائیگا تب یا غالب آئیگا تب

وہی تو ان لوگوں کو ساتھ ہونگے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے کہ بعض پیغمبروں میں سے ہیں اور بعض صدیقوں میں سے ہیں اور بعض شہیدوں میں سے ہیں اور بعض صالحوں میں سے ہیں اور وہی لوگ رفاقت کو سب سے اچھے ہیں۔ یہ خدا کی طرف سے فضل ہے۔ اور خدا کا آگاہ ہونا کافی ہے۔ اے ایمان لانیو! اپنی حفاظت کے سامان کرو۔ پس دستے دستے ثباتوں میں یا اچھے نکل پڑو۔ اور جمع ہو کر لوگوں کو اپنی جگہ سے دور دیکھنا چاہیے کہ وہ تم سے پیچھے رہ جائیں پھر اگر تم پر کوئی مصیبت پڑ گئی تو وہ یہ کہیں گے کہ خدا نے تم پر احسان کیا کہ لادلمنا کون معہم شہیداً اور اگر تم پر بھلائی کا فضل ہو گیا تو اس سعادت کو میں تمہارے ساتھ حاضر نہ تھا۔ اور اگر تم پر بڑی کامیابی حاصل کرتا۔ پس وہ لوگ جو آخرت کے عوض میں زندگی دنیا کو بیچتے ہیں ان کو لازم ہے کہ راہ خدا میں لڑے گا وہ مارا جائیگا تب یا غالب آئیگا تب

کلمہ

وہی تو ان لوگوں کو ساتھ ہونگے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے کہ بعض پیغمبروں میں سے ہیں اور بعض صدیقوں میں سے ہیں اور بعض شہیدوں میں سے ہیں اور بعض صالحوں میں سے ہیں اور وہی لوگ رفاقت کو سب سے اچھے ہیں۔ یہ خدا کی طرف سے فضل ہے۔ اور خدا کا آگاہ ہونا کافی ہے۔ اے ایمان لانیو! اپنی حفاظت کے سامان کرو۔ پس دستے دستے ثباتوں میں یا اچھے نکل پڑو۔ اور جمع ہو کر لوگوں کو اپنی جگہ سے دور دیکھنا چاہیے کہ وہ تم سے پیچھے رہ جائیں پھر اگر تم پر کوئی مصیبت پڑ گئی تو وہ یہ کہیں گے کہ خدا نے تم پر احسان کیا کہ لادلمنا کون معہم شہیداً اور اگر تم پر بھلائی کا فضل ہو گیا تو اس سعادت کو میں تمہارے ساتھ حاضر نہ تھا۔ اور اگر تم پر بڑی کامیابی حاصل کرتا۔ پس وہ لوگ جو آخرت کے عوض میں زندگی دنیا کو بیچتے ہیں ان کو لازم ہے کہ راہ خدا میں لڑے گا وہ مارا جائیگا تب یا غالب آئیگا تب

فَسَوْفَ نُوْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ۝ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُوْنَ

مغرب ہم اس کو بہت بڑا اجر دینگے۔ اور تم کو کیا ہو گیا ہے کہ تم راہ خدا میں

فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ

نہیں لڑتے حالانکہ کچھ کمزور مرد اور عورتیں

وَالْوُلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ

اوجھو جو (روک لے گویں) عرض کر رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار! ہم کو اس بستی سے

الْقَرْيَةَ الظَّالِمِ اَهْلُهَا ۚ وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَدُنْكَ

نکال جس کے باشندے ظالم ہیں۔ اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی حامی مقرر

وَدَلِيًّا ۚ وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيْرًا ۝ الَّذِيْنَ

فرمادے اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی مددگار بنا دے۔ جو ایمان

اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ

لائے ہیں وہ تو خدا کی راہ میں لڑینگے اور جو کافر

كَفَرُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِي سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ فَقَاتِلُوْا اَوْلِيَاءَ

ہو گئے ہیں وہ طاغوت کی راہ میں لڑینگے پس تم شیطان کے

الشَّيْطٰنِ اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطٰنِ كَانَ ضَعِيْفًا ۝ اَلَمْ تَرَ اِلٰى

دوستوں سے لڑو۔ یقیناً شیطان کا کمر بے دھم ہے۔ (اور رسول) کیا تم نے انکو نہیں دیکھا

الَّذِيْنَ قِيْلَ لَهُمْ كَفُوْا اَيْدِيَكُمْ وَاَقِمُوْا الصَّلٰوةَ

جن کو کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکو اور نماز پڑھو

وَاتُوْا الزَّكٰوةَ ۚ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ اِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ

اور زکوٰۃ دو پھر جب ان پر جہاد واجب کیا گیا تو ان میں سے ایک گروہ آدمیوں سے

يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشِيَةِ اللّٰهِ اَوْ اَشَدَّ خَشِيَةً ۚ وَالْوَارِثٰتُ

ایسا ہی ڈرنے لگا جیسا کہ اللہ سے ڈرتا یا اس سے بھی زیادہ اور وہ یہ کہنے لگی کہ اے پروردگار

میں یہ لڑنا ہم جہاد میں نہیں لڑتے۔ اور یہ کہنے لگی کہ اے پروردگار! ہم کو اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں۔ اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی حامی مقرر فرمادے اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی مددگار بنا دے۔ جو ایمان لائے ہیں وہ تو خدا کی راہ میں لڑینگے اور جو کافر ہو گئے ہیں وہ طاغوت کی راہ میں لڑینگے پس تم شیطان کے دوستوں سے لڑو۔ یقیناً شیطان کا کمر بے دھم ہے۔ (اور رسول) کیا تم نے انکو نہیں دیکھا جن کو کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکو اور نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو پھر جب ان پر جہاد واجب کیا گیا تو ان میں سے ایک گروہ آدمیوں سے ایسا ہی ڈرنے لگا جیسا کہ اللہ سے ڈرتا یا اس سے بھی زیادہ اور وہ یہ کہنے لگی کہ اے پروردگار

ماتزل

كُتِبَتْ عَلَيْنَا الْقِتَالُ لَوْ لَا آخَرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ

تو نے ہم پر کیوں جہاد واجب کیا؟ کاش ہمکو تھوڑے دن اور ہمت دی ہوتی۔

قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ

تم کہدو کہ سرمایہ دنیا کم ہے۔ اور جو لوگ پرہیزگار ہیں انکی لیو آخرت کہیں بہتر ہے

وَلَا تظْمُونَ فِتْيَانًا ۝ آيِن مَّا تَكُونُوا يَدْرِكَكُمُ

اور تمہر ایک سوت برا بھلا ہی ظلم نہ کیا جائیگا۔ جہاں کہیں بھی تم ہو گے موت تمکو (مضروب)

الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشِيدَةٍ ۝ وَإِن تُصِبْهُمْ

آبیکی گو تم مضبوط برجوں ہی میں کیوں نہ ہو۔ اور (حالت انکی یہ ہے کہ) اگر انکو

حَسَنَةً يَقُولُوا هٰذِهِ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۝ وَإِن تُصِبْهُمْ

کچھ بھلائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اگر انکو کچھ

سَيِّئَةً يَقُولُوا هٰذِهِ مِنْ عِنْدِكَ ۝ قُلْ كُلُّ

بڑائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ تمہاری طرف سے ہے۔ تم کہدو کہ سب

مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۝ قَمَالٌ هُوَ لِأَعْيُنِ النَّاسِ لَا يُبْصَرُونَ

اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اتنی سی

يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ۝ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ

بات بھی نہیں سمجھتے؟ زاری بند بجا جو بھلائی تمکو پہنچتی ہے یہ

فَمِنَ اللّٰهِ ۝ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنَ نَفْسِكَ ۝

اللہ کی طرف سے ہے اور جو بڑائی تمکو پہنچتی ہے یہ تیری ذات کی طرف سے ہے۔

وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا ۝ وَكَفَىٰ بِاللّٰهِ شَهِيدًا ۝ مَن

اور (ای رسول) ہمکو تمکو آدمیوں کے لیے بھیجا ہے۔ اور اللہ شہادت کے لیے کافی ہے۔

يَطَّعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّٰهَ ۝ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ

رسول کی اطاعت کرنا اسے یقیناً خدا کی اطاعت کی اور جو پھر جائیگا تو ہموزم کو اسکا حکیمان بناکر

Handwritten marginal notes at the top of the page, including phrases like 'والمحصنت' and 'النساء'.

Vertical handwritten marginal notes on the left side of the page, providing commentary on the verses.

Handwritten marginal notes at the bottom of the page, continuing the commentary.

Handwritten notes at the top of the page, including the word 'المحذرت' (The Warning) and other religious commentary.

حَفِيظًا وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَدُوا مِنْ عِنْدِكَ
 بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ
 مَا يُبَيِّنُونَ فَأَعْرَضَ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ
 وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ۝ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ
 كَثِيرًا ۝ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ
 أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ
 مِنْهُمْ لَعَلِمَ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْ لَا
 فَضْلَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتَهُ لَآتَمَّ الشَّيْطَانُ الْأَعْنَافَ
 قَلِيلًا ۝ فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تَكْفَلُ لِنَفْسِكَ
 وَخَرِّضَ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكْفِكَ بَأْسَ

Handwritten notes at the bottom of the page, continuing the commentary on the verses above.

Extensive vertical handwritten notes on the right side of the page, providing detailed explanations and interpretations of the Quranic text.

الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا ۝

اور کفر اور اللہ کی عسکریت سے سب سے زیادہ قوی اور عذاب سے کسی کی عسکریت سے سب سے زیادہ سخت ہے۔

مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا ۚ

جو شخص اچھی سفارش کرے گا اس میں سے اس کو بھی حصہ ملے گا

وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا ۚ

اور جو شخص بری سفارش کرے گا اس میں سے اس کو حصہ ملے گا اور

كَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِبًا ۝ وَإِذْ أَحْبَبْتُمْ بَيْتَكُمْ

خدا ہر شے کا نگران ہے۔ اور جس وقت تم کو سلام کیا جائے

فَحَبِّئُوا بِأَحْسَنِ مِنْهَا وَرُدُّوا هَٰذَا لِلَّهِ كَانَ عَلَىٰ

تو تم اس سے بہتر طرز پر سلام کرو یا اس کا جواب دو۔ بیشک اللہ ہر چیز کا

كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ۝ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ

حساب لینے والا ہے۔ اللہ کہ اس کے سوا کوئی سبب و نہیں۔ اس میں شک نہیں کہ

يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ۚ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَلِيلًا ۚ

قیامت کے روز وہ ضرور تم سب کو اکٹھا کرے گا اور بات کہنے میں اللہ سے زیادہ سچا کون ہے؟

فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِتْنَةٍ وَاللَّهُ أَرَكُسًا ۖ

تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقین کی بارگاہ میں دو گروہ ہو گئے ہو حالانکہ اللہ نے انکو اچھے افعال کے سبب

كَسِبُوا ۖ أَتْرِيدُونَ ۖ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ ۚ وَمَنْ

اگت دیا۔ کیا تم یہ ارادہ رکھتے ہو کہ خدا نے جس کو توفیق ہدایت سلب کی تو تم اس کو راہ راست پر لادو؟

يُضِلَّ اللَّهُ ۖ فَمَا تَهْدِي لَهُ سَبِيلًا ۚ وَذُو الْكُفْرُونِ

اور جس کو خدا توفیق ہدایت سلب کر لیا تم ہرگز اس کو کوئی راستہ نہ لادو۔ انہی کو آرزو ہے کہ جس طرح وہ کافر ہو گئے

كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً ۚ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ

تم بھی اسی طرح کافر ہو جاؤ کہ تم سب برابر ہو جاؤ۔ پس تم ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ

بسم اللہ الرحمن الرحیم
اور اللہ کی عسکریت سے سب سے زیادہ قوی اور عذاب سے کسی کی عسکریت سے سب سے زیادہ سخت ہے۔
جو شخص اچھی سفارش کرے گا اس میں سے اس کو بھی حصہ ملے گا
اور جو شخص بری سفارش کرے گا اس میں سے اس کو حصہ ملے گا اور
خدا ہر شے کا نگران ہے۔ اور جس وقت تم کو سلام کیا جائے
تو تم اس سے بہتر طرز پر سلام کرو یا اس کا جواب دو۔ بیشک اللہ ہر چیز کا
حساب لینے والا ہے۔ اللہ کہ اس کے سوا کوئی سبب و نہیں۔ اس میں شک نہیں کہ
قیامت کے روز وہ ضرور تم سب کو اکٹھا کرے گا اور بات کہنے میں اللہ سے زیادہ سچا کون ہے؟
تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقین کی بارگاہ میں دو گروہ ہو گئے ہو حالانکہ اللہ نے انکو اچھے افعال کے سبب
اگت دیا۔ کیا تم یہ ارادہ رکھتے ہو کہ خدا نے جس کو توفیق ہدایت سلب کی تو تم اس کو راہ راست پر لادو؟
اور جس کو خدا توفیق ہدایت سلب کر لیا تم ہرگز اس کو کوئی راستہ نہ لادو۔ انہی کو آرزو ہے کہ جس طرح وہ کافر ہو گئے
تم بھی اسی طرح کافر ہو جاؤ کہ تم سب برابر ہو جاؤ۔ پس تم ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

والحصص

النساء

حَقُّ يَاجْرُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَعُدُّوهُم

جب تک کہ وہ راہِ خدا میں ہجرت نہ کریں پھر اگر وہ روگرداں ہوں تو انکو گرفتار کرو

وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ

اور جہاں انکو یاؤ قتل کرو اور ان میں سے کسی کو دوست

وَأَوْلِيَاءَ وَلَا تَصِيرُوا إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمِ

بناد اور نہ مددگار۔ سوائے انکی جو ایسی قوم سے جا ملے ہوں کہ

بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصْرَتِ

تمہاری اور اس قوم کے مابین معاہدہ ہو یا تمہاری پاس اس حالت سے آئیں کہ تم سے لڑنے میں

صُدُّوهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَوَلَوْ

یا اپنی قوم سے لڑنے میں دلتنگ ہوتے ہوں۔ اور اگر

شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطْنَا عَلَيْهِمْ لِقَاتِئِكُمْ فَانْصَرَفْتُمْ

اللہ چاہتا تو انکو تم پر مسلط کر دیتا پھر وہ تم سے ضرور لڑتے۔ پس اگر وہ تم سے الگ نہیں

فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَالْقَوْلُ إِلَيْكُمْ السَّلَامُ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ

اور تم سے نہ لڑیں اور تمہیں صلح کا بیغام دیں تو (اپنی فتنہ سی کر نیک) خدا نے تمہارے لیے

عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ۝ سَتَجِدُونَ آخِرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ

کوئی راستہ نہیں رکھا۔ عنقریب تم کچھ اور لوگوں کو ایسا پاؤ گے کہ وہ چاہتے ہیں کہ

يَأْمَنُوا بِكُمْ وَيَأْمِنُوا قَوْمَهُمْ كَمَا رَدُّوْا إِلَى الْفِتْنَةِ

تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی بچے رہیں جتنی فتنہ کی طرف بلاؤ جا میں اندھا

أُرْكَسُوا فِيهَا فَإِنْ لَمْ يَعْتَرِزْ لَكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمْ السَّلَامَ

اس میں گریڑیں۔ پس اگر وہ لوگ تم سے کنارہ کش نہوں اور تم سے صلح نہ کریں

وَيَكْفُوا إِلَيْكُمْ فَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقْتُلُوهُمْ

اور اپنے ہاتھ نہ روکیں تو انکو گرفتار کرو اور جہاں یاؤ ان کو قتل کرو۔

قتل کا حکم آیا خواہ وہ کنارہ کشی کریں یا نہ کریں۔ اس حکم سے وہ مستثنیٰ نہیں ہیں جو امن و اخلاص سے نفع لے کر اپنے ہاتھ سے قتل کر لیا تھا مثلاً مسلمانوں پر یا یہ سبیل اللہ ہے جو جہاد ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



وَأُولَئِكَ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنًا مُّبِينًا وَمَا

اور انہی پر ہم نے تم کو کھلا تسلط دیا ہے۔ اور کسی

كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا لَّا خَطَاةَ عَلَيْهِ وَمَنْ

مومن کا یہ کام نہیں کہ کسی مومن کو قتل کرے سوائے اس کے کہ غلطی ہو جائے۔ اور جو شخص

قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاةً فَتَرْتَدُّ رَقَبَةٌ مِّنْهُ وَدِيَةٌ

غلطی سے کسی مومن کو قتل کر دے تو اس کے ذمہ ہر ایک ایماندار بردہ کا آزاد کرنا اور پورا خونہما

مُسْلِمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ

اُس (مقتول) کو ورثہ کو دینا سوائے اس کے کہ وہ معاف کر دیں۔ پھر اگر وہ مقتول

كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ

ایسی قوم سے ہو جو تمہاری دشمن ہے لیکن ہو مومن تو قاتل کو ذمہ ایک ایماندار بردہ کا

مُّؤْمِنَةٌ وَإِنْ كَانَ مِنَ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ

آزاد کرنا ہے۔ اور اگر ایسی قوم سے ہو کہ تمہاری قوم کے اور اُس کے مابین

مِيثَاقٌ قَدِيمَةٌ مُّسْلِمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ

سچا رہے ہو تو اس کے ورثہ کو پورا خونہما دینا اور ایک ایمان دار بردہ کا آزاد کرنا

مُّؤْمِنَةٌ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرٍ مِّنْ تَابِعِينَ

(لازم ہے) پھر جس کو (بردہ آزاد کرنا) میسر نہ ہو تو خدا کی طرف سے نو ہر نیکے لیے اُس کے ذمے

تَوْبَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَنْ

متواتر دو مہینے کے روزی نہیں۔ اور اللہ صاحب علم و حکمت ہے۔ اور جو شخص

يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءُ مَا جَهِتُمْ خَالِدًا

کسی مومن کو جان بوجھ کر مار ڈالے گا اس کا بدلہ جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ (ہمیشہ)

فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ

رہیگا اور اُس پر خدا غضبناک ہوگا اور لعنت کرے گا اور اُس کے لیے

مختلف تفسیریں ہیں... ہر ایک کو اس کے اپنے انداز میں سمجھنا چاہیے... بعض نے کہا کہ یہ سزا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو دی ہے... اور بعض نے کہا کہ یہ سزا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو دی ہے...

اور اس کے ذمہ ہر ایک ایماندار بردہ کا آزاد کرنا اور پورا خونہما دینا اور اگر وہ مقتول ایسی قوم سے ہو جو تمہاری دشمن ہے لیکن ہو مومن تو قاتل کو ذمہ ایک ایماندار بردہ کا آزاد کرنا اور پورا خونہما دینا اور اگر وہ مقتول ایسی قوم سے ہو جو تمہاری دشمن ہے لیکن ہو مومن تو قاتل کو ذمہ ایک ایماندار بردہ کا آزاد کرنا اور پورا خونہما دینا...

بزرگ

اور اس کے ذمہ ہر ایک ایماندار بردہ کا آزاد کرنا اور پورا خونہما دینا اور اگر وہ مقتول ایسی قوم سے ہو جو تمہاری دشمن ہے لیکن ہو مومن تو قاتل کو ذمہ ایک ایماندار بردہ کا آزاد کرنا اور پورا خونہما دینا اور اگر وہ مقتول ایسی قوم سے ہو جو تمہاری دشمن ہے لیکن ہو مومن تو قاتل کو ذمہ ایک ایماندار بردہ کا آزاد کرنا اور پورا خونہما دینا...

اور اس کے ذمہ ہر ایک ایماندار بردہ کا آزاد کرنا اور پورا خونہما دینا اور اگر وہ مقتول ایسی قوم سے ہو جو تمہاری دشمن ہے لیکن ہو مومن تو قاتل کو ذمہ ایک ایماندار بردہ کا آزاد کرنا اور پورا خونہما دینا اور اگر وہ مقتول ایسی قوم سے ہو جو تمہاری دشمن ہے لیکن ہو مومن تو قاتل کو ذمہ ایک ایماندار بردہ کا آزاد کرنا اور پورا خونہما دینا...

عَذَابًا عَظِيمًا ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا

بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اسے ایمان لائیو الوہا جب تم

ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ

راہ خدا میں باہر نکلو تو تحقیق کر لو اور جو شخص تم سے (بقاعدہ اسلام)

الْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا ۖ تَبْتَغُونَ

سلام کرے تو یہ نہ کہہ دو کہ تو مومن نہیں ہے۔ تم زندگی دنیا کا

عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا زُفَعًا اللَّهُ مَعَانِمُ

اشا نہ ڈھونڈتے ہو حالانکہ بڑے بڑے منافع خدا کے

كثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ

پس ہیں۔ تم بھی پہلے سے ایسے ہی تھے۔ پھر اللہ نے تم پر احسان کیا

فَتَبَيَّنُوا لِمَنَّ اللَّهُ كَانِ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيْرًا ۝

پس تحقیق کر لیا کرو۔ یقیناً اللہ اس سے جو کچھ تم کرتے ہو خیر دار ہے۔

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَدْرًا

یومنون میں سے گھر میں بیٹھے رہنے والے سوائے۔ ان کے جو

أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

معدور ہیں اور راہ خدا میں اپنے مالوں

بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ

اور جانوں سے جہاد کرنے والے برابر نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مال اور

بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً

جان سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھے رہنے والوں پر درجے کی رو سے فضیلت دی ہے۔

وَكُلًّا وَعَدَّ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ

حالانکہ تو اب کا وعدہ ہر ایک سے کیا ہے۔ اور جہاد کرنے والوں کو

النساء

عَلَى الْقَعِيدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ۖ دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً

بِحُورٍ رَّحِمَةٍ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝

مغفرت بڑی اور رحمت ہے اور اللہ بڑا بخشنے والا اور ہر گم گریہ والا ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا

فِيمَا كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ ۗ

قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَأَسِعَتْ فَنَاجِرُوا فِيهَا ۗ

فَأُولَٰئِكَ مَا وَلَّهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ۝

إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانَ

لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ۝

فَأُولَٰئِكَ عَسَىٰ اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ ۗ وَكَانَ اللَّهُ

عَفُورًا غَفُورًا ۝ وَمَنْ يَهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ

فِي الْأَرْضِ مُرْغَمًا كَثِيرًا وَسِعَةً ۗ وَمَنْ يَخْرُجْ

فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرْغَمًا كَثِيرًا وَسِعَةً ۗ وَمَنْ يَخْرُجْ

فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرْغَمًا كَثِيرًا وَسِعَةً ۗ وَمَنْ يَخْرُجْ

فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرْغَمًا كَثِيرًا وَسِعَةً ۗ وَمَنْ يَخْرُجْ

فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرْغَمًا كَثِيرًا وَسِعَةً ۗ وَمَنْ يَخْرُجْ

فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرْغَمًا كَثِيرًا وَسِعَةً ۗ وَمَنْ يَخْرُجْ

فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرْغَمًا كَثِيرًا وَسِعَةً ۗ وَمَنْ يَخْرُجْ

فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرْغَمًا كَثِيرًا وَسِعَةً ۗ وَمَنْ يَخْرُجْ

بجانب

بجانب

Handwritten marginal notes in Urdu script, providing commentary and explanations for the verses.

Handwritten marginal notes in Urdu script, providing commentary and explanations for the verses.

مِنْ بَيْتِهِ مَهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ

کے لیے اپنے گھر سے ہجرت کر کے نکلیگا پھر اُسے موت

الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ

آپ کی تو اُسکا اجر یقیناً خدا کے ذمے رہا۔ اور اللہ بڑا

غَفُورًا رَحِيمًا ۝ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ

بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور جب تم زمین میں سفر کرتے ہو یا

عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِلَّا أَنْ

تم کو خون ہو کہ کافر تم سے فساد کر بیٹھیں تو تم پر کچھ الزام نہیں

خِفْتُمْ أَنْ يُفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ

کہ تم نمازیں قصر کر دو۔ بیشک کافر

كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا ۝ وَإِذَا كُنْتُمْ فِيهِمْ

تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ اور (اگر سزا) جب تم ان میں ہو اور

فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ

تو انکو نماز پڑھانے لگو تو لازم ہے کہ ان میں سے ایک گروہ تمہارے ساتھ نماز پڑھے

وَلْيَأْخُذُوا بِأَسْلِحَتِهِمْ فَمَاذَا سَجَدُوا وَقَلْبُهُمْ كَمَنْ

اس حال میں کہ ابھی ہتھیار لیے رہیں۔ جس جب وہ سجدہ کر لیں تو انہیں لازم ہے کہ

مِنْ وَرَائِكُمْ مَّسَّوْلَاتٍ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا

وہ تمہارے پیچھے آجائیں اور دوسرا گروہ میں نے ابھی نماز نہیں پڑھی ہے انہیں چاہیے کہ وہ اگر

فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا بِأَسْلِحَتِهِمْ وَأَسْلِحَتُهُمْ

آجائیں پھر وہ تمہارے ساتھ نماز پڑھیں لیکن انکو بھی لازم ہے کہ وہ اپنی حفاظت کی چیزیں اور ہتھیار لیں وہیں

وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ

کافراں بات کو پسند کرتے ہیں کہ اگر وہ تم کو تمہارے ہتھیاروں سے اور تمہاری

Handwritten marginal notes in Urdu script, providing commentary on the verses. The text is dense and covers the entire width of the page.

Handwritten marginal notes in Urdu script, providing commentary on the verses. The text is dense and covers the entire width of the page.

وَأَمْتَعْتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا

اس کے غافل پائیں تو وہ ایک دفعہ ہی تم پر حملہ کر دیں اور اگر

جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ

مکو بارش سے تکلیف ہو یا تم بیمار ہو تو تم پر کچھ گناہ

مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخَذُوا حِذْرَكُمْ

نہیں ہے کہ تم اپنے ہتھیار رکھ دو اور دہسے اپنی حفاظت کرو۔

إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ۝ فَإِذَا قُضِيَتْ

بیشک اللہ نے کافروں کو کھری سو اگرو الاغذاب مہیا کیا ہے۔ پھر جب تم نماز

الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى

ختم کر چکو تو کھڑے کھڑے بیٹھے بیٹھے خدایا یاد

جُنُوبِكُمْ ۝ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۝ إِنَّ

کیا کرو پھر جب تم مطمئن ہو جاؤ تو (پوری) نماز پڑھو۔ بیشک

الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ۝ وَلَا

نماز مومنین پر واجب ہے اور لکھی گئی ہے۔ اور ان

تَهْنَأُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ ۝ إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ

لوگوں کا تائب کرنے میں کستی نہ کرو۔ اگر تم کو تکلیف پہنچتی ہے تو انکو بھی تو ایسی طرح

يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ ۝ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ

تکلیف پہنچتی ہے جس طرح کو تکلیف پہنچتی ہے۔ حالانکہ تم اللہ سے جو امید رکھتی ہو وہ امید وہ نہیں رکھتے۔

وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ

اور خدا صاحب علم و حکمت ہے۔ (اور رسول) بیشک ہم تمہاری طرف کتاب برحق

بِالْحَقِّ لِنَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ۝ وَلَا تَكُنْ

اتاری تاکہ تم آدمیوں کے مابین جو جب اس کے فیصلہ کرو جو خدا تمہیں دکھلا چکا ہے۔ اور تم

Handwritten marginal notes in Urdu script, including a large 'مستحکم' (Mustahkam) written vertically on the left side.

اور اللہ سے استغفار کرے اور اللہ سے بخشش مانگے۔ بیشک اللہ بڑا بخشنے والا ہے۔ اور جو لوگ اپنی ذات کی خیانت کرتے ہیں تو ان کی طرف سے انفسہم طرآن اللہ لا یحب من کان خوانا اثمیا۔ بیشک اللہ انکو دوست نہیں رکھتا جو خائن (اور) گنہگار ہیں۔

النساء

۱۵۲

والحصدت

لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا ۝ وَاسْتَغْفِرَ اللَّهُ طرآنَ اللَّهِ كَانَ

خیانت کرنے والوں کو طر فدا رہنے جو۔ اور اللہ سے بخشش مانگو۔ بیشک اللہ بڑا بخشنے والا ہے۔ اور جو لوگ اپنی ذات کی خیانت کرتے ہیں تو ان کی طرف سے

غَفُورًا رَحِيمًا ۝ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ

کر نیوالا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور جو لوگ اپنی ذات کی خیانت کرتے ہیں تو ان کی طرف سے

أَنْفُسَهُمْ طرآنَ اللَّهِ لَا يَحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَانًا أَثِمًا ۝

جھگڑانہ کرو۔ بیشک اللہ انکو دوست نہیں رکھتا جو خائن (اور) گنہگار ہیں۔

لَيَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ

لوگوں سے تو یہ چھپاتے ہیں اور خدا سے نہیں چھپاتے حالانکہ جب

مَعَهُمْ ذُرِّيَّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ

انوں کو ان باتوں کا مشورہ کرتے ہیں جو خدا کو نا پسند ہیں تو خدا انکو ساتھ موجود ہوتا ہے۔ اور جو کچھ وہ

بِمَا يَعْمَلُونَ مُخِيطًا ۝ هَآئِنٌ مَّا جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ

عمل کرتے ہیں (اکہ علم اس سب کو گھیرے ہوئے ہے۔ زندگی دنیائیں تو ان کی طرف سے

فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ فَمَنْ يُجَادِلِ اللَّهُ عَنْهُمْ يَوْمَ

اب تم جھگڑتے ہو قیامت کے دن ان کی طرف سے کون جھگڑا

الْقِيَامَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ۝ وَمَنْ

کرے یا کون انکا وکیل بنے گا؟ اور جو شخص

يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرَ اللَّهُ يَجِدْ

کوئی بدی کرے یا اپنی ذات پر ظلم کرے پھر خدا سے بخشش مانگے تو وہ

اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝ وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا

اللہ کو بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا پائے گا اور جو شخص کوئی گناہ کرے گا

فَأَثْمًا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ طرآنَ اللَّهِ كَانَ عَلِيمًا

سوا اسکو نہیں کہ وہ اپنی ہی ذات کو لے کر وبال پیدا کرے گا۔ اور خدا صاحب علم و

اور اللہ سے استغفار کرے اور اللہ سے بخشش مانگے۔ بیشک اللہ بڑا بخشنے والا ہے۔ اور جو لوگ اپنی ذات کی خیانت کرتے ہیں تو ان کی طرف سے انفسہم طرآن اللہ لا یحب من کان خوانا اثمیا۔ بیشک اللہ انکو دوست نہیں رکھتا جو خائن (اور) گنہگار ہیں۔

مکتبہ

اور اللہ سے استغفار کرے اور اللہ سے بخشش مانگے۔ بیشک اللہ بڑا بخشنے والا ہے۔ اور جو لوگ اپنی ذات کی خیانت کرتے ہیں تو ان کی طرف سے انفسہم طرآن اللہ لا یحب من کان خوانا اثمیا۔ بیشک اللہ انکو دوست نہیں رکھتا جو خائن (اور) گنہگار ہیں۔

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين

والصالحات

النساء

حَكِيمًا ۝ وَمَنْ يَكْسِبْ عَظِيمَةً ۝ أَوْ إِنَّمَا تَدِيرُ بِهِ بَرًّا

حکمت ہے۔ اور جو شخص سہوا یا عمدہ کوئی گناہ کرے پھر اسکا الزام وہ کسی بچکانہ

فَعَدَّ حَتْمَلْ يَهْتَانًا ۝ وَإِنَّمَا مُبِينًا ۝ وَلَوْ لَا فَضْلُ

دیہ تو لہتا وہ ہتان اور مرتب گناہ کا لازم ہوگا۔ اور اگر خدا کا فضل اور

اللَّهُ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَنْ

اسکی رحمت تم پر نہ ہوتی تو ان میں تو ایک گروہ نے یہ ارادہ کیا تھا کہ تم کو

يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ

بھٹکا دے۔ حالانکہ وہ اپنے آپے ہی کو بھٹکاتے اور تمہارا کچھ بھی

مِنْ شَيْءٍ ۝ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

زچھڑتے۔ جس حلال میں کہ اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے

وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ ۝ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ

اور جو تم کو تم نہ جانتے تھے اسکی تم کو تعلیم دی ہے۔ اور اللہ کا تم پر بہت بڑا

عَلَيْكَ عَظِيمًا ۝ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نُّجْوَاهُمْ إِلَّا

فضل ہے۔ ان کی بہت سی سرگوشیاں کہنے میں کوئی خیر و خوبی نہیں ہے سوائے

مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ

انہکے جو صدقہ دینے یا نیکی کرنے یا لوگوں کے مابین میل جول کر دینے کی

النَّاسِ ۝ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ

صلاح دے۔ اور جو شخص خدا کی رضا جوئی کے لیے ایسا کرے

فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ۝ وَمَنْ يَشَاقِقِ

ایم اس کو بہت بڑا اجر عطا کریں گے۔ اور جو شخص بعد اس کے کفر

الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعِ

اسکے لیے کفر جائے رسول کی مخالفت اختیار کرے گا اور مومنوں کے

۱۵۳

ثلاثة اربع

انزل

لہ انہ صلاح بہین الناس کان من جالیہم جنہ صادق علیہ السلام و منقول و کلام من قسم کا ہوتا ہے۔ صدق۔ کتب۔ اصلاح میں

اور اللہ کے فضل سے جو تم کو تعلیم دی ہے اور اللہ کا تم پر بہت بڑا فضل ہے اور جو شخص خدا کی رضا جوئی کے لیے ایسا کرے اور جو شخص بعد اس کے کفر رسول کی مخالفت اختیار کرے گا اور مومنوں کے

Handwritten notes at the top of the page, including the word 'النساء' (An-Nisa) and 'المحسنت' (Al-Muhsinat).

عَلَى سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ لَوْلَا مَا تَوَلَّى وَنَصَلَهُ جَهَنَّمَ
 وَسَاءَتْ مَصِيرًا ۝ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ
 بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۝ وَمَنْ
 يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ۝ إِنَّ
 يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنثَاءً وَإِنْ يَدْعُونَ
 إِلَّا الشَّيْطَانَ مَرِيدًا ۝ لَعَنَهُ اللَّهُ مَوْقَالَ لَا تَخْذَنْ
 مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ۝ وَلَا ضَلَمَهُمْ وَلَا مَنِّينَهُمْ
 وَلَا مَرْتَنَهُمْ فَلْيَبْتَئِكُنْ آذَانَ الْإِنْعَامِ وَلَا مَرْتَنَهُمْ
 فَلْيَخْذَنْ خَلْقَ اللَّهِ ۝ وَمَنْ يَخْذَنْ الشَّيْطَانَ وَلِتَأْمِنَ
 دُونَ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خَسِيرًا ۝ إِنَّمَا يُعِدُّهُمْ
 وَمَا يُعِدُّهُمْ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ۝ أُولَئِكَ مَا لَهُمْ

Vertical handwritten notes on the right side of the page, providing commentary on the verses.

Handwritten notes at the bottom of the page, continuing the commentary.

جَهَنَّمَ وَلَا يَحْدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا ۝ وَالَّذِينَ
جہنم جس سے بھاگے گا مومن وہ نہ پائیں۔ اور جو لوگ

أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ
ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے مقرب ہم ان کو ایسے باغوں میں داخل

تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا
کریں جن کے تھال بتی پھرتی ہیں ہمیشہ ہمیشہ وہ انہی میں رہیں۔ (یا)

وَعَدَّ اللَّهُ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا ۝
اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اور بات کہنے میں اللہ سے زیادہ سچا کون ہوگا؟

لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ
تمہاری امیدوں کو اور اہل کتاب کی امیدوں کو اس میں کچھ دخل نہیں۔ جو بھی

يَعْمَلْ سُوءً يُجْزِيهِ وَلَا يَحْدِلُهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ
کوئی بدی کرے گا اس کا بدلہ پائیگا اور خدا کے سوا وہ کسی کو نہ اپنا حامی

وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۝ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ
پائیگا اور نہ مددگار۔ اور جو شخص کوئی نیکی کرے گا اس حال میں

مِنْ ذِكْرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ
کہ وہ مومن بھی ہو خواہ (۵۵) مرد ہو یا عورت وہی تو

يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ۝ وَمَنْ أَحْسَنُ
جنت میں داخل ہونے اور ان پر عمل برابر ظلم نہ کیا جائیگا۔ اور جسے اپنے اپنے کو

دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَإِنَّهُ
اطاعت خدا کے لیے چمکا دیا جس حال میں کہ وہ نیکو کار بھی ہو اور ظلموں و ظلمت ابرہہ کا

لِرَبِّهِمْ حَنِيفًا وَانْخَلَعُوا لِإِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ اللَّهِ ۝
پر جو گیا اس پر جوڑیں گے کہ وہ سارا کہ ابراہیم کو خدا نے اپنا خلیل مقرر کیا تھا اور جو

بہت سی حواشی اور تفسیریں لکھی ہیں، جن میں قرآنی الفاظ کی معنی، روایات، اور فقہی مسائل پر بحث کی گئی ہے۔

بہت سی حواشی اور تفسیریں لکھی ہیں، جن میں قرآنی الفاظ کی معنی، روایات، اور فقہی مسائل پر بحث کی گئی ہے۔

بہت سی حواشی اور تفسیریں لکھی ہیں، جن میں قرآنی الفاظ کی معنی، روایات، اور فقہی مسائل پر بحث کی گئی ہے۔

بہت سی حواشی اور تفسیریں لکھی ہیں، جن میں قرآنی الفاظ کی معنی، روایات، اور فقہی مسائل پر بحث کی گئی ہے۔

مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ

آسمانوں میں ہی اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب اللہ کا ہے۔ اور اللہ (کا علم) ہر چیز کو

شَيْءٍ مُّحِيطًا ۖ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ۗ قُلْ اللَّهُ

کے بارے میں ہے۔ اور (اے پیغمبر) لوگ عورتوں کو باری میں تم سے فتویٰ طلب کرتے ہیں۔ تم کہہ دو کہ

يَفْتِيكُمْ فِيهِنَّ ۚ وَمَا يُسْأَلُ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي ذِي

تم کو عورتوں کو باری میں فتویٰ دیتا ہے اور وہ علم جو تم پر ہے عورتوں کے بارے میں ہے

النِّسَاءِ الَّتِي لَا تُولُوْنَهُنَّ مَا لَكُنَّ لِهِنَّ وَكَرِهِيْنَ

بڑھا جاتا ہے جن کو تم ان کا مقدر حصہ نہیں دیتے حالانکہ تم ان سے نکاح کر چکے ہو، اس

أَنَّ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوُلْدِ إِنَّ وَاكِنَّ

نہیں رکھتے ہو اور اسی طرح کمزور بچوں کے بارے میں علم دیتا ہے اور جو کہ

تَقَوْمُوا لِلْيَمَىٰ بِالْقِسْطِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ

تم یتیموں کو حق میں انصاف کرنے کی لکھو گے جو جاؤ۔ اور جو نیکی بھی تم کرو گے

اللَّهُ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ۗ وَإِنَّ امْرَأَةً خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا

اللہ اس سے ضرور آگاہ ہے۔ اور اگر کوئی عورت اپنے خاوند کی طرف سے ظلم یا

نَشْوَزًا أَوْ غَيْرَ ضَافًا فَلْجُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصَلِّحَا بَيْنَهُمَا

بے رحمی کا اندیشہ رکھے تو اگر وہ آپس میں کسی طرح صلح کر لیں تو ان کے ذمے کلمہ الزام

صَلِّحَا وَالصَّلَاةُ خَيْرٌ وَأَحْضَرْتِ الْأَنْفُسَ لِلَّهِ ۗ وَإِنْ

نہیں۔ اور صلح سے بہتر ہے۔ اور سب نفس بخل کو سامنے رکھ لے ہیں۔ اور اگر

مُحْسِنًا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۗ كَلَّا

تم نیکی کرو اور بہتر کارروائی کرو تو جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے آگاہ ہے اور اگر

تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْلُوا أَيْدِيَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَكُونُوا

تم اس بات کو میں بھی ہو کہ اپنی کل اندھا دیکھ کے ہمیں مساوات برقرار نہ کر سکتے ہو اور اگر

Handwritten marginal notes in Urdu script, including a large 'لا' (La) symbol, providing commentary on the verses.

Handwritten marginal notes at the top of the page.

Handwritten marginal notes at the bottom of the page.

كُلِّمِ الْمَيْلَ قَدَارًا وَمَا كَامِلًا مَعْلُوقَةً وَإِنْ تَصَلِحُوا

ظلم بھی نہ کرو کہ اسکو آؤم میں چھوڑ دو۔ اور اگر تم اصلاح کرو

وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا وَإِنْ يَتَفَرَّقَا

اور ڈرتے رہو تو اللہ بہت بڑا بخشنے والا (اور) رحم کرنے والا ہے۔ اور اگر وہ دونوں جدا ہو جائیں

يَغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعْتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

تو اللہ ہر ایک کو اپنے نوازنا دوست سے مہمی کر دیا۔ اور اللہ وسعت والا (اور) حکمت والا ہے۔

وَاللَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا

اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب اللہ کا ہے۔ اور قہینا ہی نے ان لوگوں کو

الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ

جنہیں تم سے پہلے کتاب دی تھی اور خود تم کو یہ حکم دیا ہے کہ اللہ سے

اتَّقُوا اللَّهَ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ

ڈرتے رہو۔ اور اگر تم ناشکری کرو گے تو آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے

وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا

وہ تو اللہ ہی کا ہے۔ اور اللہ بے پروا (اور) لائق حمد ہے۔ اور

مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا

آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے۔ اور کار سازی کے لیے اللہ کافی ہے۔

لَئِنْ يَشَاءِ يُخْرِجْكُمْ مِنْهَا النَّاسُ وَيَأْتِ الْآخِرِينَ

اسے لوں اگر وہ چاہے تو تم کو نفا کر دے اور بجائے تمہارے اور پیدا کر دے۔ اور

كَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا مَّنْ كَانَ يُرِيدُ تَوَابَ اللَّهِ

اللہ اس پر پوری پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ جو شخص دنیا کا بدلہ چاہتا ہے تو خدا کے پاس

فَعِنْدَ اللَّهِ تَوَابٌ لِّدُنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا

دنیا کا بھی بدلہ موجود ہے اور آخرت کا بھی۔ اور اللہ سنے والا اور دیکھنے والا ہے۔

بہت سی حواشی اور تفسیریں لکھی ہیں جو اس آیت کے تحت ہیں۔ یہ حواشی اس آیت کے تحت ہیں: "وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ اتَّقُوا اللَّهَ"۔ یہ حواشی اس آیت کے تحت ہیں: "وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ اتَّقُوا اللَّهَ"۔ یہ حواشی اس آیت کے تحت ہیں: "وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ اتَّقُوا اللَّهَ"۔

19
ع
14

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ

اے ایمان لانگوالو تم انصاف کر لیں بڑے مضبوط بجاؤ اور خدا کے گواہ ہو جاؤ گو تمکو

وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا

اپنی ذات یا ماں باپ اور رشتہ داروں کے خلاف گواہی دینی ہے کوئی مالدار ہو

أَوْ فَقِيرًا قَالَ اللَّهُ أُولَىٰ بِهِمَا قَدْ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ زَعِيدُونَ

یا محتج خدا دونوں کا حکم (نگران) ہے تم انصاف سو درگزر کر میں خواہش نفسانی کی پیروی نہ کرو

وَإِن تَلَوْا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

اور اگر تم ادا و شہادت میں زبان دیاؤ گے یا منہ پھاؤ گے تو جو کچھ بھی تم کرو گے اللہ اس سے آگاہ ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ

اے ایمان لانگوالو تم اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر

الَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَالَّذِي نَزَّلَ مِن

جو اسے اپنے رسول پر نازل کیا ہے اور اس کتاب پر جو اسے پہلے نازل کی ہے

قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ

ایمان لاؤ۔ اور جس شخص نے خدا کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا

وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا إِنَّ الَّذِينَ

لو قیامت کو دن کا انکار کرو یا وہ راہ راست کو بہت ہی دور جا پڑا۔ جو لوگ

آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ أزدَادُوا كُفْرًا

ایمان لائے اور کافر ہوئے پھر ایمان لائے پھر منکر ہوئے پھر اپنا انکار میں بڑھ گئے

لَمْ يَكُنْ اللَّهُ لِيُغْفِرْ لَهُمْ وَلَا لِيُهْدِيَهُمْ سَبِيلًا يُغْفِرُ

خدا کا یہ کام نہیں ہے کہ انکو بخشنے اور نہ یہ کہ انکو راہ راست دکھلائے۔ ان

الْمُنْفِقِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا

منافقوں کو جو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا پارتا ہے

Handwritten marginal notes in Urdu script, including the word 'کفر' (Kufr) written vertically. The notes discuss various aspects of faith, disbelief, and the consequences of apostasy, often quoting or explaining the verses on the page.

Handwritten marginal notes at the bottom of the page, continuing the commentary on the verses above.

الْكُفْرَيْنِ اَوْلِيَاءٍ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ اَيْتَبِعُوْنَ

یہ خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے عذاب دردناک مہیا ہے۔ کیا ان کے پاس

عِنْدَهُمُ الْعِزَّةُ فَاِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيعًا وَقَدْ نَزَّلَ

عزت تلاش کرتے ہیں حالانکہ عزت سب خدا کی ہے ثابت ہے۔ اور وہ تم پر کتاب

عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ اِنْ اِذْ اَسْمَعْتُمْ اٰيَاتِ اللّٰهِ يَكْفُرْهَا وَاَوْ

میں یہ حکم نازل کر چکا ہے کہ جس وقت تم یہ سنیو کہ خدا کی آیتوں کا انکار کیا جاتا ہے اور

يَسْتَهْزِءُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْ

اگلی تہی اڑائی جانی ہو تو تم ان لوگوں کو پاس مت بیٹھو جب تک کہ وہ کسی اور معاملہ میں گفتگو نہ شروع

عَدِلْتُمْ اِنَّكُمْ اِذَا امْتَلَأْتُمْ اِنَّ اللّٰهَ جَامِعُ الْمُنٰفِقِيْنَ

کہیں روز تم بھی اس جگہ میں (کفر میں) اٹھی گماندہ ہو جاؤ گے۔ بیشک خدا کل منافقوں

وَالْكُفْرَيْنِ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا وَالَّذِيْنَ يَرْتَابُوْنَ يَكْتُمُوْنَ

اور کافروں کو جہنم میں جمع کرے گا۔ جو تمہارے انتظار میں لگے ہوئے ہیں

فَاِنْ كَانَ لَكُمْ قِتَالٌ مِّنْ اللّٰهِ قَالُوْا اَلَمْ يَكُنْ مَعَكُمْ وَاَوْ

کہ اگر قح خدا کی طرف سے تمہاری ہو جائے تو یہ کہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے

وَاِنْ كَانَ لِلْكُفْرَيْنِ نَصِيْبٌ قَالُوْا اَلَمْ نَسْتَحْوِذْ

اور اگر کافروں کو نصیب ہو جائے تو ان سے یہ کہیں کہ کیا ہم پر غالب نہ آگئے تھے

عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُمْ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَاللّٰهُ يُحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاَوْ

اور کیا سمجھتے تم کو مومنوں سے نہیں نکالے گا۔ پس اللہ قیامت کو دن تمہارے

يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكُفْرِيْنَ عَلٰى الْمُؤْمِنِيْنَ

بہین فیصلہ کرے گا۔ اور خدا ہرگز مومنوں پر کافروں کا غلبہ نہیں دے گا۔

سَبِيْلًا اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَهُوَ خٰدِعُهُمْ وَاَوْ

بیشک منافق اللہ کو دھوکا دیتے ہیں اور وہ ان کو اپنے دھوکے کا بدلہ دے گا اور اللہ

Handwritten marginal notes in Urdu script on the left side of the page, providing commentary and explanations for the verses.

Handwritten marginal notes in Urdu script at the top of the page, providing commentary and explanations for the verses.

Handwritten marginal notes in Urdu script at the bottom of the page, providing commentary and explanations for the verses.

Handwritten notes at the top of the page, including the number 140 in a circle.

النساء

140

والحصن

وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ

اور جس وقت وہ نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو الگ الگ کھڑے ہوتے ہیں لوگوں کو دکھلانے ہیں

وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ۝ مَثَبُ الَّذِينَ بَيْنَ يَدَيْكَ

اور خدا کا ذکر بہت ہی کم کرتے ہیں۔ کفر اور ایمان کے مابین تڑپ میں ہیں

لَا إِلَى هَوَاهُ وَلَا إِلَى بَأْسٍ مِنْ يَدَيْهِ ۚ وَمَنْ يَضِلْ اللَّهُ فَمَا لَهُ

نہ انہی کی طرف ہے نہ انہی کی طرف۔ اور جس سے خدا تو قیقہ ہایت سلب کر لیا

تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكٰفِرِينَ

میں اس کے لیے ہرگز کوئی راہ نہ پاؤ گے۔ اسی ایمان لانیوالو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں

أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۗ أُرِيدُونَ أَنْ يُتَّخِذُوا

کو یا نہ بناؤ۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ

لِللَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا ۝ إِنَّ الْمُنٰفِقِينَ فِي الدَّرَكِ

خدا کی کھلی جھٹ ایسا اور پر قائم کر لو یقیناً منافق جہنم کے سب سے نیچے

الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ۝

پلٹے میں ہونگے۔ اور تم ان کا کوئی مددگار نہ پاؤ گے۔

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ

سوائے ان کے جو توبہ کریں اور نیکی اختیار کریں اور خدا کا سہارا لیے رہیں

وَإِخْلَصُوا ۗ يَبْهَمُونَ ۗ فَالْمُنٰفِقُونَ سَوَاءٌ أَعْرَضُوا

اور اللہ کے واسطے اپنا دین خالص کریں تو وہ مومنوں کے ساتھ ہونگے اور منافق

يُوتُوا اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ۝ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ

خدا مومنوں کو بڑا اجر دے گا۔ اگر تم شکر کرو اور

بِعَذَابِكُمْ ۗ إِنَّ شُكْرَكُمْ وَآمَنْتُمْ بِوَكَّانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا

ایمان لاؤ تو خدا تم کو عذاب کیوں دے گا۔ حالانکہ اللہ تو قدر والی صاحب علم ہے۔

Extensive vertical handwritten notes on the right side of the page, providing commentary and explanations for the verses.

Handwritten notes at the bottom of the page, continuing the commentary.